

• جوبلی لائف انشورنس اس بیمہ پالیسی کا انڈر رائٹر اور فریم کنڈر ہے اور پالیسی کی خدمت، لاجسٹک، پروسیجرنگ اور انشورر کنٹرولرز اور ریگولیٹرز کے حکیم کے تعیناتی کا ذمہ دار ہے۔

• سرمایہ کاری کا خطر پالیسی ہولڈر برداشت کرے گا اور اصل سیزر روٹیو اور پیچورٹی ویٹیو پر دیگر خطرات سے کم یا زیادہ ہونگی ہے۔ پالیسی ہولڈر اگر پچھلے سے طے شدہ فنڈ کے مابقی فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے لیے اطلاع پر دستخط کرنا ضروری ہے۔

• براہ کرم بنیادی فنڈ کے فارم ایسٹس کی معلومات کے لئے سہولت کی ویب سائٹ ملاحظہ کیجئے: <https://www.jubileelife.com/funds-2/fund-manager-reports/>

رابطہ کی تفصیلات:

شکایات یا مزید تفصیلات کی صورت میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں:

جوبلی لائف انشورنس پبلیٹی لینڈ

ہیڈ آفس: 74/1-A لالزار ایم ٹی خان روڈ کراچی۔ 74000 پاکستان
 فون نمبر: 32120201, 35205094 (021)
 فیکس: 35610959 (021)
 ای میل: info@jubileelife.com
 ویب سائٹ: www.jubileelife.com
 یو ایس این: 111 111 554 (021)
 ایئر ایم ایس: اپنا سوال کھڑ کر 8554 پر ارسال کریں

سامبا بینک لینڈ

ہیڈ آفس: سائیس منزل سید کولابو سٹریٹ سولہ ماٹا نا دین محمد روڈ صحرائے کراچی۔ 74000
 یو ایس این: 999-333-92-21-111
 فیکس: 5442-3568-92-21-111
 سامبا فون بینکنگ: (72622) 11 11 SAMBA
 ویب سائٹ: www.samba.com.pk

• Sales representative will provide a personalized illustration of benefits to you. Please refer to the notes in the illustration for detailed understanding of the various terms and conditions.

• Please refer to the Policy Documents for detailed understanding of the various terms and conditions.

• Supplementary Benefits may be available if the life covered is aged 55 years or less nearest birthday at the time of issuance.

• Samba Bank is acting as a distributor on behalf of Jubilee Life Insurance and is not and shall not be held responsible in any manner whatsoever to any person, including but not limited to the insured customer(s), beneficiary(ies) or any third party.

• Jubilee Life Insurance is the underwriter and provider of this Insurance Policy and shall be responsible for policy servicing and lodgment, processing, & settlement of claims to the insured customer(s) or beneficiary(ies).

• The investment risk shall be borne by the Policy Holder and actual maturity or surrender values may be lower or higher than the projected figures. A declaration must be signed by the policyholder if he/she opts to invest in a fund other than the default fund.

• Please refer to company web site for target asset mix of the underlying fund. [\(https://www.jubileelife.com/funds-2/fund-manager-reports/\)](https://www.jubileelife.com/funds-2/fund-manager-reports/)

Contact details

In case of complaint or for further details, you may contact:

Jubilee Life Insurance Company Limited

Head Office: 74/1-A, Lalazar, M.T. Khan Road, Karachi, 74000, Pakistan
 Tel: (021) 32120201, 35205094
 Fax: (021) 35610959
 Email: info@jubileelife.com
 Website: www.jubileelife.com
 UAN: (021) 111 111 554
 SMS: Your Query to 8554

Samba Bank Limited

Head Office: 7th Floor, Sidco Avenue Centre, Maulana Deen Muhammad Wafai Road, Saddar, Karachi – 74000, Pakistan
 UAN: +92-21-111-999-333, Fax: +92-21-3568-5442
 Samba Phone Banking: 11 11 Samba (72622)
 Website: www.samba.com.pk

Your Premiums, by default, will be allocated to **Jubilee Life Government Securities Fund** of the Jubilee Life Insurance. It offers competitive returns with minimum risk, over medium to long-term, by investing in a diversified portfolio of different money market & government debt securities and does not have any investment in equity securities.

However, you have the option to invest in any fund of your choice other than the default investment fund by signing the declaration form.

Your invested premiums are managed by expert investment managers and backed by premium financial securities to ensure optimized returns with manageable risk exposure.

Your premiums will earn investment returns during the term of the plan. At the end of the chosen term, you will receive your accumulated cash value as a lump sum.

Note: The past performance of these funds is not necessarily indicative of the future performance of any of these funds.

Unit prices of Jubilee Life's fund(s) are published in all leading dailies and the Jubilee Life website: www.jubileelife.com

Do I have the flexibility to switch between fund(s)?
 Jubilee Life allows you four free switches every policy year. Charges would be applicable from the fifth switch and will be deducted from the Cash Value/Unit Account prior to the switch.

Note: This plan gives a general outline of Jubilee Secure Savings Plan. The plan and the add-on benefits will be governed by detailed conditions set out in the policy provisions and conditions.

Disclaimers

• This product is underwritten by Jubilee Life. It is not guaranteed or insured by Samba Bank or its affiliates and is not a Samba Bank product.

• This is a life insurance product which has two distinct elements i.e., Insurance Protection and Investment. The investment component is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).

• The premiums in the plan are invested in Funds managed by Jubilee Life.

• The past performance of Jubilee Life Funds is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily indicative of future or likely performance of the funds and neither Jubilee Life nor Samba Bank will incur any liability for the same.

Policy Years	Allocation% (as % of basic annual premium)
1	60%
2	80%
3	90%
4 & onwards	100%
Ad hoc (extra savings investments)	100%

What is a Continuity Bonus?

You will be entitled to a Continuity Bonus if you continue your plan (without any breaks) for a period of more than 4 years. This will be in the form of extra units allocated to your unit account each year. With these extra units, your investment fund(s) will grow at a pace faster than what you are paying for. The extra unit allocation, as a proportion of basic plan premium is as follows:

Policy Years	Extra Allocation% (as % of basic annual premium)
5 years & onwards	3%

* Bonus Allocations are subject to terms & conditions

What other charges will apply on my plan?

* Bonus Allocations are subject to terms & conditions

Bid/Offer spread: 5% of Basic Premium
Management Charge: 1.5% p.a. of Fund Value
Administration Fee: Rs. 145 per month
Mortality Charge: As per SECP filing
Switching/ Redirection Fee: Rs. 500, only if more than four switches/ redirections are opted per year
Premium Allocation Charge: Premium allocation charge for the year is calculated as hundred percent of the premium received less percentage of the allocated premium for the year.

* All charges are reviewable by Jubilee Life, and are subject to change.

How do I select my Investment Options?

Jubilee Life currently offers you a choice of four funds. You can either choose to allocate the entire premium into one fund or split your premium between multiple funds that are available.

- Jubilee Life Balanced Fund**
 A fund designed to generate competitive long-term returns with balanced allocation in Equity, Government securities and other wide range of allowable asset classes. It is classified as fund having medium risk profile.
- Jubilee Life Government Securities Fund**
 A fund designed to provide sustainable returns over long term with exposure in Government securities, Government securities related instruments and bank deposits. It is classified as fund having low risk profile.

Is there medical examination required before I can buy this plan?

The requirement of medical examination depends on the amount of Sum Assured and the age of the customer. Please contact your relationship manager at Samba Bank Limited for further details.

Can I access my savings?

Yes, Jubilee Secure Savings Plan allows you to withdraw your funds (either fully or partially) after the completion of two policy years, provided you have paid premiums for two years.

- Partial Withdrawal** - If you need to withdraw cash for meeting some emergency needs, but do not want to surrender the policy, you can withdraw any amount provided that the remaining cash value (as may be reviewed by Jubilee Life) of your policy after withdrawal is greater than or equal to Rs. 24,000.
- Full Policy Surrender** - At time of surrender, you will be paid in the full the Cash Value of your fund. However, surrender during early policy years may result in lower Cash Values.

Pricing Methodology

Jubilee Life follows forward unit pricing methodology. It is worked out by dividing the total value of investments in the fund by the number of active units in the fund as of pricing date.

Can I invest more money if I have extra funds available?

Jubilee Secure Savings Plan allows you to invest all extra funds available with you at any time during the term of the policy and top up your regular investments.

Does this plan give me an indexation option?

In order to combat inflation, you have an option to select indexation in your policy. Selection of this option will increase your premium automatically each year by a limit specified by the company.

However, you retain the right to cancel the indexation if you wish.

What is my plan's maturity benefit?

At the end of the chosen term of the plan, you will receive the accumulated Cash Value as a lump sum.

Who should I contact to make a claim?

For all claim related matters, please contact Jubilee Life on (021) 111 111 JLI (554)

What if I have any queries or complaints?

You can contact Jubilee Life on (021) 111 111 JLI (554) for any product related queries or complaint. You can also call Sambaphone at 11 11 SAMBA (72622).

What proportion of my premium is allocated towards my investment?

Your premium will be allocated towards investment as follows:

• **Permanent Total Disability:** If you suffer permanent total disability, your Insurance death benefit will be given in advance.

• **Waiver of Premium:** If you suffer from an illness or disability and are unable to work for at least six months, the premium from the next premium due date will be waived.

Of the above, Accidental Death, Accidental Death or Dismemberment and Hospitalization Cash riders are available under the Joint Life option of the plan.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS:

Am I eligible for the plan?

The plan is available to all customers of Samba Bank Limited from 18 to 65 years of age.

What is the minimum premium amount?

The minimum basic plan premium is Rs. 24,000 per annum.

What is the minimum and maximum term of this plan?

The term of the plan ranges from 10 to 57 years, subject to a maximum age of 75 years at plan maturity.

Does the plan offer “Free Look” period?

Jubilee Life offers a free look period of 14 days during which you can review your policy’s terms and conditions and cancel the policy, if you choose to. Your premium will be refunded on receipt of a written request within 14 days from the receipt of the policy document. Jubilee Life reserves the right to deduct the expenses incurred on medical examination(s) of the customer in connection with the issuance of this policy.

How can I calculate my Sum Assured?

In case of your death, your family or loved ones would receive either the Sum Assured or Cash Value, whichever is higher. You can compute your sum assured as shown in the below example.

Example: You have a policy with an annual premium of Rs. 100,000 and a cover multiple of 10
 Sum Assured= Annual basic premium x Cover Multiple *
 = Rs. 100,000 x 10
 = Rs. 1,000,000 is the Sum Assured

* (offered from 5 to 254), the range of cover multiples available to the policy holder varies with the age at entry of the life assured.

How do I determine the Cash Value?

Cash Value = Number of units in your Unit Account x Applicable Unit redemption price

Example: The number of units in your unit account is 1,000 and the applicable unit redemption price is 800:
 = 1,000 x Rs.800/unit
 = Rs. 800,000 is the Cash Value

Jubilee Secure Savings Plan, a unit linked endowment plan is a flexible life insurance plan specially designed for customers of Samba Bank Limited. Jubilee Secure Savings Plan enables you to plan for long-term financial requirements such as children’s education, marriage, etc. It also protects your family from future uncertainties.

Benefits:

- Your savings are invested in the fund of your choice managed by Jubilee Life’s investment experts, who ensure that your savings are optimized and well managed.
- If you continue your plan for a period of more than 4 years, you will be entitled to a Continuity Bonus, whereby your investment will grow at a faster pace.
- Option to invest your extra savings and top-up your investments at any time during the term of your policy.
- Option to withdraw your funds (either fully or partially) after the completion of two policy years.
- Select your own life insurance amount, which will be paid to your family or loved ones in case of your death.
- You can avail an attractive feature of Joint Life coverage, which will not only provide protection to you but also your spouse/family member assured under the plan. The Death Benefit will be paid on the first death between either of the two individuals.
- Policyholder can cancel the policy within 14 days from the receipt of policy document.**

In addition to the above you can also get the following additional benefits:

- Family Income Benefit:** In case of your death, an additional stream of regular income will be paid until the expiry of a defined period to the family of the life assured in addition to other benefits.
- Critical Illness:** If you are diagnosed with any of the specified Critical Illnesses, your Insurance death benefit will be given in advance.
- Hospitalization Cash Rider:** A daily benefit is paid if you are admitted to a hospital. The benefit payable is doubled, in case of hospitalization due to any of the specified Critical Illnesses. In case you are in ICU, additional 50% benefits will be payable. Spouse and children can also be covered under this benefit.
- Accidental Death:** An additional amount will be paid, in case death occurs due to an accident.
- Accidental Death & Dismemberment:** An additional amount will be paid, in case death occurs due to an acci Depending upon the nature of the dismemberment, either full or partial death benefit is paid.